

بچے کا نام: _____

تاریخ پیدائش: _____

معذور افراد کی تعلیم کے وفاقی ایکٹ (Individuals with Disabilities Education Act) کے تحت، ابتدائی معاونت کے پروگرام (Early Intervention Program) کے لیے لازمی ہے کہ جب آپ کا بچہ 3 سال کا ہو جائے تو آپ کے مقامی اسکول کے ضلع کو آپ کے بچے کے ممکنہ پری اسکول کی خصوصی تعلیم پروگراموں اور خدمات کے لیے اہلیت کے بارے میں مطلع کرنے کے لیے رابطہ کی محدود معلومات (والدین کا نام، پتہ، ٹیلیفون نمبر، بچے کا نام، تاریخ پیدائش اور ابتدائی معاونت پروگرام میں ریفرل کی تاریخ) جاری کرے۔ یہ اطلاع نامہ آپ کے مقامی اسکول کے ضلع کو آپ کے بچے کی خصوصی تعلیم کے پری اسکول پروگراموں اور خدمات کے لیے ممکنہ اہلیت کی تیاری میں مفید ہوتا ہے۔

تعلیمی قانون کے سیکشن 4410 کے (Section 4410 of Education Law) تحت، آپ کے بچے کی خدمات کے لیے ممکنہ اہلیت سے کم از کم 90 دن پہلے، آپ کے سروس کوآرڈینیٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کمیٹی برائے پری اسکول کی خصوصی تعلیم (Committee on Preschool Special Education) کو تحریری اطلاع دے جہاں اہل بچہ رہائش پذیر ہو۔

والد/والدہ اس تحریری اطلاع سے تحریری طور پر دستبردار بھی ہو سکتا/سکتی ہے (اعتراض کر سکتا/سکتی ہے) اور رابطے کی محدود معلومات کو کمیٹی برائے پری اسکول کی خصوصی تعلیم کو بھیجے جانے سے روک سکتا/سکتی ہے۔ والد/والدہ کو اس اطلاع کی تاریخ سے 30 کلینڈری دنوں کے اندر سروس کوآرڈینیٹر کو تحریری طور پر آگاہ کرنا ہو گا کہ وہ تحریری اطلاع کی شرط سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں۔

مجھے اطلاع کی شرط اور تحریری اطلاع سے دستبرداری کی 30 کلینڈری دنوں کی ٹائم لائن کے متعلق آگاہ کیا گیا ہے۔ میں تحریری اطلاع بھیجنے سے متفق ہوں اور دستبرداری کی 30 کلینڈری دنوں کی مدت سے استثنیٰ لینا چاہتا/چاہتی ہوں۔

یا

مجھے اطلاع کی شرط سے آگاہ کر دیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تحریری اطلاع سے دستبرداری کے لیے میرے پاس آج کی تاریخ سے 30 کلینڈری دن موجود ہیں۔ میں اس بات سے آگاہ ہوں کہ اگر میں اپنے سروس کوآرڈینیٹر سے تحریری طور پر، آج کی تاریخ سے 30 کلینڈری دنوں کے اندر، رابطہ نہیں کرتا، تو میرے مقامی اسکول کے ضلع کی کمیٹی برائے پری اسکول کی خصوصی تعلیم کو تحریری اطلاع بھیج دی جائے گی۔

یا

مجھے اطلاع کی شرط کے متعلق آگاہ کیا گیا ہے اور میں اپنے مقامی اسکول کے ضلع کی کمیٹی برائے پری اسکول کی خصوصی تعلیم کو تحریری اطلاع بھیجنے سے دستبردار ہونا چاہتا ہوں۔

والد/والدہ کے دستخط: _____ تاریخ: _____

براہ کرم نوٹ کریں: اگر تحریری اطلاع اور تحریری دستبرداری کے بھرنے کے لیے دیئے گئے فارم میں والدین/سرپرست کے الیکٹرانک دستخط درکار ہوں، تو اس دستخط میں الیکٹرانک دستخط کی توثیق کا نشان بھی لازمی طور پر شامل ہونا چاہیے (جو Adobe Acrobat, DocuSign وغیرہ جیسی ایپلیکیشنز میں دستیاب ہوتا ہے)، جس میں فارم پر دستخط کی تاریخ اور وقت بھی شامل ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کا تحفظ دستیاب نہ ہو، تو اطلاع اور تحریری دستبرداری کا فارم پرنٹ کیا جانا چاہیے تاکہ والدین/قانونی سرپرست کو کاغذی کاپی پر رضامندی کے لیے دستخط کرنے کی سہولت دی جا سکے۔

TO BE FILLED OUT BY THE SERVICE COORDINATOR

Parent objected to the written notification to the Committee on Preschool Special Education Services.
Service coordinator received written objection on (Date): _____

No written parent objection received within 30 calendars days (Date): _____